



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

**Press Release
For immediate Release
July 30, 2016**

SECP for creating investor awareness and expanding outreach of capital market

KARACHI, July 30: The Consultative Group on Capital Markets has held its third meeting under the chairmanship of Mr. Zafar Hijazi, the SECP chairman, in Karachi. The group stressed upon the need for effective implementation of various developmental reforms under the Capital Market Development Plan 2016-18.

With regards to targets set for the current financial year, measures were discussed for increasing market capitalization, new listings, development of new products, derivatives, image building of Pakistan capital market, etc.

Chairman Hijazi in particular stressed upon the frontline regulators and the market intermediaries to play their due role in creating investor awareness and expanding the outreach of capital market in the length and breadth of the country, thus addressed the issue of meagre investor base and limited access to capital market services. He also reiterated the SECP's unwavering resolve to take strict action against those found involved in misappropriation of investors' assets, market manipulation and in any illegal financial activity. The group lauded SECP for unearthing an illegal brokerage house in Rahimyar Khan and for taking an immediate action against it. The group was of the view that this enforcement approach will go a long way in developing investors' confidence in the market and will send a strong message to unscrupulous elements.

The group also reviewed the status of reforms and measures agreed upon in the earlier meetings and observed with appreciation the progress made in all major areas in the form of various new regulations and initiatives by the SECP. These included introduction of revised regulatory framework for book-building, CCP model for NCCPL, phased implementation of new brokers' regime, stringent criteria for selection of auditors for brokers, reforms in negotiated deal market, revised modalities in the margin financing product, etc. The SECP agreed to review any new suggestions for further improving the book building mechanism to ensure maximum participation of investors, remove any irritants in the listing process, and review the group's request for introducing minimum commission scales for brokers.

کیپیٹل مارکیٹ کی رسائی بڑھانے اور سرمایہ کاروں کی آگہی کی کوششوں میں تیزی لائی جائے گی۔ ایس ای سی پی

کراچی: ۳۰ جولائی، کیپیٹل مارکیٹ کے حوالے سے قائم مشاورتی گروپ کا تیسرا اجلاس ایس ای سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی کی زیر صدارت کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں گروپ نے کیپیٹل مارکیٹ کے ترقیاتی پروگرام برائے سال ۲۰۱۸-۲۰۱۶ کے تحت ترقیاتی اصلاحات کے نفاذ کی رفتار تیز کرنے پر زور دیا۔

موجودہ مالی سال کے لئے طے کردہ اہداف کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے فوری اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ ایس ای سی پی کے چیئرمین نے فرنٹ لائن ریگولیٹر اور مارکیٹ کے متوسلین پر زور دیا کہ وہ سرمایہ کاروں میں آگہی کے فروغ اور ملک کے طول و عرض میں کیپیٹل مارکیٹ کی خدمات فراہم کرنے کے لئے متحرک کردار ادا کریں۔ انہوں نے اس موقع پر یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ایس ای سی پی سرمایہ کاروں کے اثاثوں کے حوالے سے گڑبڑ کرنے والے عناصر کی سرکوبی اور مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیوں اور ناجائز ہتھکنڈوں کے تدارک کے لئے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔

گروپ نے ایس ای سی پی کی جانب سے رحیم یار خان میں غیر قانونی بروکر تاج ہاؤس کی کھوج لگانے اور اس کے خلاف ضروری اقدامات کرنے پر ایس ای سی پی کی کوششوں کو سراہا۔ شرکاء کی رائے تھی کہ قانون کے نفاذ کے حوالے سے اسی طرح کی نگرانی اور عمل درآمد کی ضرورت ہے۔

گروپ نے قبل ازیں اجلاسوں میں فیصلہ کئے گئے اصلاحاتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اور اس ضمن میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایس ای سی پی کی جانب سے بک بلڈنگ کے نظام میں بہتری لانے کے حوالے سے تجاویز پر مزید غور کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو کیپیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کیا جاسکے۔